

2 مارچ 2018

برامپٹن میں کینیڈین بلڈ سروس میں توسیع کر دی گئی ہے

ایک نئی اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیسٹنگ لیبارٹری کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس سے 90 ملازمتوں کا اضافہ ہوا ہے

کینیڈین بلڈ سروس نے شہر کے مشرقی حصے میں اپنے برامپٹن بلڈ پروڈکشن اینڈ ڈسٹری بیوشن سنٹر میں ایک نئی ٹیسٹنگ لیبارٹری کا آغاز کر دیا ہے۔ 28,000 مربع فٹ پر محیط اس اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹری کے قیام سے بائیولوجیکس مینوفیکچر کے طور پر تنظیم کی پیداواری صلاحیتوں میں اضافہ ہو گا اور خون کے ایک محفوظ و مربوط نظام میں بہتری آئے گی۔

برامپٹن کی کمیونٹی پر سرمایہ خرچ کرنے اور کینیڈین بلڈ سروسز کے کاموں میں بہتری لانے کے عمل میں اس سہولت گاہ کے قیام کی وجہ سے پیداواری صلاحیتوں میں خاطر خواہ اضافہ ہو گا، ہسپتالوں کی سروسز میں بہتری آئے گی، اخراجات میں کمی واقع ہو گی اور کینیڈا کے تمام شہریوں کو بہتر سہولیات میسر آئیں گی۔ برامپٹن کی اس نئی سہولت گاہ میں سرمایہ کاری کی توجہ ٹیسٹنگ کے مقامی کاموں پر مرکوز ہے، مگر مستقبل میں اس میں توسیع کی گنجائش رکھی گئی ہے۔

کینیڈین بلڈ سروسز نے اس نئی ٹیسٹنگ لیبارٹری کے شاندار افتتاح اور میڈیا ٹور کی میزبانی کے لیے بروز جمعہ، 2 مارچ کی تاریخ مقرر کی ہے۔

برامپٹن کے صحت اور لائف سائنسز کے شعبے میں کینیڈین بلڈ سروسز ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ سٹی کی معاشی بڑھوتری کی کاوشوں میں یہ شعبہ خصوصی توجہ کا حامل ہے جبکہ بڑھوتری اور سرمایہ کاری کے لیے اس شعبہ کو خصوصی وسائل اور معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ ملازمتوں اور اختراع کے عمل میں بہتری لانے کے لیے سٹی صحت کے شعبہ سے متعلق کاروباروں، نگہداشت کے فراہم کنندگان اور پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز کے ساتھ اشتراک کرنے میں ایک فعال کردار ادا کر رہا ہے۔

شہر کی تین عدد نزدیکی بڑی ہائی ویز میں سرمایہ کاری کا فیصلہ ایک کلیدی حیثیت کا حامل ہے — 401، 427 اور 407 — اور ٹورانٹو پیٹرنس انٹرنیشنل ایئر پورٹ۔ جس کی وجہ سے خون کے نمونوں کو برامپٹن میں ٹیسٹنگ کے لیے جلدی بھجوا یا جا سکتا ہے اور ہسپتالوں میں خون کے محفوظ اجزاء بروقت حاصل کر سکتی ہیں۔ نئی برامپٹن ٹیسٹنگ لیبارٹری کی وجہ سے بائیومیڈیکل مواد کا کچرہ اٹھانے اور آلودگی سے پاک کرنے پر اٹھنے والے اخراجات میں بھی کمی واقع ہو گی۔

برامپٹن کی توسیع، برامپٹن کی اپنی کمیونٹی پر سرمایہ کاری کرنے اور زندگی بچانے والے خون کے اجزاء کی پورے صوبے میں موجود دیگر کمیونٹیز تک پہنچانے کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ کینیڈین بلڈ سروسز کی برامپٹن کی سہولت گاہ میں مجموعی طور پر تقریباً 400 ملازمین مصروف خدمت ہیں۔ برامپٹن ٹیسٹنگ لیبارٹری کینیڈا کے مشرقی نصف حصے میں عطیہ کنندگان کے لیے ٹیسٹنگ کی خدمات سر انجام دے گی، جو پورے ملک کے عطیہ کنندگان کے لیے ٹیسٹنگ کی خدمات کا 60 فیصد بنتا ہے۔

اقتباسات

"اس توسیع پر میں کینیڈین بلڈ سروسز کو مبارک باد پیش کرنا چاہتی ہوں اور ہماری کمیونٹی پر کی جانے والی اس شاندار سرمایہ کاری پر میں ان کی مشکور ہوں۔ جب بات ہو خون کا عطیہ دینے کی، تو میں جانتی ہوں کہ برامپٹن کے لوگ اس کار خیر میں ہمیشہ ایک قدم آگے ہوتے ہیں۔"

میئر لنڈا جیفری

"برامپٹن میں کینیڈین بلڈ سروسز میں توسیع شہر اور تنظیم کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ برامپٹن کے محل وقوع، ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر تک رسائی سے انہیں فائدہ ہو گا اور تیزی سے بڑھتے ہوئے شعبے میں بڑھوتری اور اعلیٰ مہارتوں کی حامل ملازمتوں کے مواقع پیدا ہونے سے برامپٹن کو فائدہ پہنچے گا۔ کینیڈین بلڈ سروسز کو اس شاندار افتتاح کے موقع پر میری جانب سے مبارک باد۔"

سٹی کونسلر جیف بومین، چیئر اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر

"ہمارے شہر میں کینیڈین بلڈ سروسز کی جانب سے ہونے والی توسیع کے حوالے سے ہم نہایت پرجوش ہیں۔ یہ شعبہ ہماری حکمت عملی کے منصوبے کا ایک اہم حصہ ہے اور ہم ان کے ساتھ اور صحت و لائف سائنسز کے شعبوں میں دیگر کاروباروں کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں، چونکہ جب ہم مل کر آگے بڑھیں گے تو سرمایہ کاری اور توسیع میں اضافہ ہو گا۔"

باب ڈارلنگ، ڈائریکٹر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر

-30-

برامپٹن پڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں [ٹویٹر](https://www.brampton.ca) اور [فیس بک](https://www.brampton.ca)۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ فرمائیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

برائن اسٹیل

سینیئر میڈیا کوآرڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

brian.stittle@brampton.ca | 905.874.2143